

# منصب کے امور اور اہلیت

(Job Description &amp; Specification)

## JOB/SKD/05

کفن دفن	(Department)	تحصیل	کام کرنے کی جگہ (Workplace)
ڈسٹرکٹ ذمہ دار	(Report to)	تحصیل ذمہ دار	منصب (Designation)
پوسٹ ذمہ داران	ماتحت اسٹاف (Subordinate Staff)	عاشقان رسول کے انتقال پر غسل میت اور کفن و دفن کے معاملات کرنا	کام (Function)

### منصب کے کام - Job Description

- جدول سافت ویر میں پیشگی و عملی جدول انٹر کرنا، پیشگی جدول بنانے میں ماتحتوں کی رہنمائی کرنا اور جدول چیک کرنا نیز پیشگی اطلاع کے ساتھ عمل کرنا/ کروانا۔
- ٹے شدہ نظام کے مطابق مدنی مشورے کرنا، مدنی مشوروں میں تیاری کیا تھا اول تا آخر شرکت کرنا اور طے ہونے والے مدنی پھولوں کے اہداف مکمل کرنا/ کروانا۔
- اہل ذمہ داران کا تقریر کرنا، ذمہ داران کو فعال رکھنا اور تقریری و تبدیلی کاریکارڈ اپ ڈیٹ رکھنا نیز تقریری کا ہر ماہ جائزہ لینا۔
- عاشقان رسول کے انتقال پر غسل میت دینا/ دلوانا اور کفن و دفن کی سہولیات (Funeral Services) فراہم کرنا/ کروانا نیز اس کے نمازِ جنازہ میں شرکت کرنا/ کروانا۔
- نماہی آفات (مشلاز لے، سیلاب، طوفان اور حادثات وغیرہ) کے موقع پر شہید ہونے والے مسلمانوں کے غسل اور کفن و دفن وغیرہ کے معاملات کرنا/ کروانا۔
- گور کن (قبر بنانے والوں)، کتبہ لکھنے والوں اور کفن و دفن کا سامان وغیرہ بینچے والوں کے مدنی حلقوں کا گانا/ لگوانا۔
- دعوت اسلامی و دیگر اہلسنت کے جامعات و مدارس، گور نمنٹ و پرائیوریٹ اداروں، سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز سے متعلقہ افراد کو کفن و دفن کورس کروانا۔
- اعراس بزرگان دین کے موقع پر زائرین (Visitor) کو غسل میت اور کفن و دفن کا طریقہ سخنانے کا اہتمام کرنا/ کروانا۔
- ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکرہ اجتماعات اور دیگر اجتماعات میں شعبے کا بستہ (Stall) لگوانا اور مسلم فیوزل (Muslim's Funeral) اپیکیشن انسٹال کروانا۔
- شعبے کے تربیتی اجتماعات میں شعبے کی طرف سے جاری ہونے والی ویڈیو (Videos) کے ذریعے غسل میت اور کفن و دفن کا طریقہ سمجھانے کے نظام کو مضبوط کرنا/ کروانا۔
- ورثاء کو مر جو میں کے ایصال ثواب کے لیے مساجد، مدارس المدینہ و جامعات المدینہ وغیرہ بنانے یا تعمیرات میں حصہ لینے کا ذہن (Mindset) دینا/ دلوانا۔
- شعبے سے وابستہ ذمہ داران اور شخصیات کے ساتھ مل کر 12 دینی کاموں، بڑی راتوں اور ایوٹس کے اجتماعات بالخصوص طے شدہ کورسز میں عملی طور پر شرکت کرنا/ کروانا۔
- شعبے کے جملہ امور کی تکمیل و ترقی کے لیے پلانگ (Planning) کرنا نیز اس کا شرعی و تنظیمی رہنمائی اور مشاورت کیا تھا نفاذ (Implementation) کرنا/ کروانا۔
- اپنے متعلقہ فرض علوم، شعبے کے ایس او پیز اور جاب ڈسکرپشن (JD) کا مطالعہ کرنا نیز کے پی آئیز (S's KPI) سمجھنا اور تنظیمی معلومات واپٹیس سے آگاہ رہنا۔
- اپنے ماتحت ذمہ داران کے ایچ آر اور فناں کے معاملات حل (Solve) کرنا/ کروانا نیز شعبے کو مہماں کی بنیاد پر خود کفیل (Self-sufficient) کرنے کی کوشش کرنا/ کروانا۔
- فیڈبیک اور جائزہ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ملنے والی شکایات (Complaints) / تجویز (Suggestions) اور مسائل کو حل کرنا/ کروانا۔
- شعبے سے متعلقہ تمام ریکارڈ ڈپیٹ رکھنا اور کھونا اور طے شدہ کارگردگیاں درست اور بروقت متعلقہ ذمہ دار کو پیش کرنا/ کروانا۔
- ای میلز، واٹس ایپ، کالز، میسجر چیک کرنا اور بروقت (Timely) رپلائی کرنا/ کروانا۔
- منصب کے مطابق نگران کی طرف سے ملنے والے کام بروقت مکمل کرنا/ کروانا۔

- ❖ **نوت:** مذکورہ قوانین میں سے کون سے کام اجارے میں شامل ہوں گے اور کون سے نہیں اور کس نوعیت پر شامل ہوں گے؟ یہ بوقت اجارہ منصب اور وقت کے لحاظ سے نگران مجلس اور ایچ آر ڈیپارٹمنٹ کی مشاورت سے شرعی رہنمائی لینے کے بعد تنظیمی طریقہ کارکے مطابق طے کیا جائے گا۔
- ❖ اپنے نگران کے ذریعے شعبے میں شرعی رہنمائی کے لیے مقرر ذمہ دار کے ذریعے ماتحت افراد اور شعبے سے متعلق مسائل کی شرعی رہنمائی لینا۔
- ❖ اجیر اجارہ وقت کے دوران اجارے کے طے شدہ کام ہی کریں ان کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔

### منصب کی اہلیت - Job specification

دینی تعلیم: 12 دینی کام کورس کیا ہو

• دینیوی تعلیم: میسر کر

•

کسی تنظیمی ذمہ داری پر کم از کم 1 سے 2 سال اور فیلڈ میں کم از کم 1 سے 3 سال کا تجربہ

• People Management, Communication Skill, Leadership, flexibility